



مجھ ایک ایسا کلمہ معلوم کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، فرمایا: اگر یہ شخص کہے لے: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا

سليمان بن صرد رضى الله عنه بيان کرتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور (قريب ہوں) دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کا چہرہ (مارے غصہ کے) سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، فرمایا: اگر یہ شخص کہے لے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ (میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں) تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا چنانچہ لوگوں نے اس سے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے

[صحيح] [متفق عليه]

سليمان بن صرد رضى الله عنه بيان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی ﷺ کے پاس گالی گلوچ کرنے لگے اور ان میں سے ایک غصہ میں آگیا اور اس کا غصہ اس قدر بڑھا کہ اس کا چہرہ سرخ اور متغیر ہو گیا، نبی ﷺ نے فرمایا: میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اُسے کہے لے تو غصہ کی یہ کیفیت اس سے دور ہو جائے، اگر وہ پڑھ لے: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ (میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں) کیوں کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے وہ شیطان کے وجہ سے ہے اور جب انسان اللہ کی پناہ میں آجائے اور شیطان کے شر سے اسے ذریعہ حفاظت بنالے تو اس کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے غصہ کو کافور کر دیتا ہے، چنانچہ صحابہ نے اس آدمی سے کہا کہ تم ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھو بعض روایات میں ہے کہ اس نے غصہ سے مغلوب ہو کر اس کلمہ کو نہیں کہا بلکہ اس نے کہا: کیا مجھے پاگل سمجھتے ہو

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3578>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

